

Translation

صیرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے اس میں بہت سے پھولوں اور درخت
ہیں۔ بہار کے موسم میں لہنی رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ ان کی
خوشبو اور گند پھیل جاتی ہے۔ شام کو باغ آدھیوں، عورتوں اور
بچوں سے بھر جاتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں اور بچھڑتے ہیں اور لطف اٹھاتے
ہیں۔ یہی باغ صبح دوڑتے ہیں۔ اب وہ یہاں ہیں اور دوسرے
لہنی و باغ کے دوسرے کرتے ہیں۔ شام میں بھی باغ میں
سیر کرنے لگ جاتا ہوں۔ بہت سے عالی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

There is a park in front of my house. There
In the park there are many trees and plants.
Many colours of flowers bloom in Spring
Season. It's fragrance spreads everywhere.
In ^{the} evening park is full from male, female
and children. People wander here and there
to enjoy. Children run in the park. Now
they are here ^{and on} at the other moment they
seems ⁱⁿ at the other corner. I also ^{go} want
to park every evening. There is Gardener
to look after park.

زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحوں میں بھی آتے ہیں جب انسان بالکل ناامید ہو جاتا ہے۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور اس کی مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات انسان کی عظمت کے خلاف ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ اس عزم و ہمت کا نتیجہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ پارتے بلکہ مردانہ وار نا کامیوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک روز ضرور کامیابی عطا کرے گا۔

In the ups and downs of life people face such moments where he completely lose hope. He see no hope anywhere. and he lose power to face. It is against human dignity. The progress in the world is a result of of his determination and perseverance which Allah gifted human. People should never lose hope. Manly he face ^{that} such failures. One day Allah will give success.